

برائے فوری اجراء

ایکسیسبلیٹی ایپ کے ساتھ شراکت داری نے برامپٹن ٹرانزٹ (Brampton Transit) اور ٹرانس ہیلپ (TransHelp) میں جامعیت کو فروغ دیا ہے

برامپٹن، آن (26 ستمبر 2019) – اکتوبر میں منائے جانے والے اٹزم اوپنریس منتھ کے دوران، میئر پیٹرک براؤن اور پیل کے ریجنل چیئر نینڈو لنینکا نے آج برامپٹن ٹرانزٹ، ٹرانس ہیلپ اور میگنس کارڈز® (MagnusCards®) کے درمیان شراکت داری کا اعلان کر دیا ہے۔

میگنس کارڈز® مفت اور گیم کی طرز پر بنائی گئی ایک موبائل ایپ ہے، جو بطور کارڈ ڈیکس ڈاؤن لوڈ ہونے والی گائیڈز کی مدد سے اپنے صارفین کو زندگی گزارنے کے ہنر سیکھنے کی ایک منظم اور مرحلہ وار رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

برامپٹن ٹرانزٹ کے یہ سات کارڈ ڈیکس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہیں: فیئرز اینڈ پریسٹو (Fares and PRESTO)، پلاننگ یوئر ٹریپ (Planning Your Trip)، ہاؤ ٹو رائیڈ دی بس (How to Ride the Bus)، رائیڈنگ دی بس وڈ یوئر ڈس ایبلٹی ڈیوائس (Riding the Bus with Your Accessibility Device)، رائیڈنگ سیفلی (Riding Safely) اور سٹینڈنگ اپ ٹو ڈیٹ (Staying Up To Date)۔

ٹرانس ہیلپ کے یہ چھ کارڈ ڈیکس ڈاؤن لوڈ ہونے کے لیے دستیاب ہیں: ہاؤ ٹو بک اے ٹریپ (How to Book a Trip)، ہاؤ ٹو پے فار یوئر ٹریپ (How to Pay for Your Trip)، گیٹ ریڈی آن ٹریپ ڈے (Get Ready on Trip Day)، رائیڈنگ آن ٹرانس ہیلپ (Riding on TransHelp)، ٹریولنگ بیانڈ پیلز بارڈرز (Travelling Beyond Peel's Borders) اور ہاؤ ٹو بائی اینڈ یوز ٹیکسی سکرپ (How to Buy and Use Taxi Scrip)۔

جیسا کہ برامپٹن ٹرانزٹ کے 2019 کے کسٹمر چارٹر میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ادراک کی خصوصی ضروریات رکھنے والے افراد اور برامپٹن ٹرانزٹ کے نئے صارفین کے لیے جامع معلومات تیار کرنا اور انہیں فراہم کرنا سٹی کا عزم ہے۔ برامپٹن کو ایک گرین سٹی (Green City) اور پیل اے کمیونٹی فار لائف (Peel a Community for Life) بنانے کا عمل جاری رکھنے کے لیے، جہاں لوگ اپنی زندگیوں کی تمام منازل کی جانب آگے بڑھ سکیں، یہ شاندار شراکت داری ایک بنیادی قدم کا کردار ادا کرتی رہے گی۔

مزید جاننے کے لیے www.bramptontransit.com

اقتباسات

"برامپٹن ایک سر سبز و شاداب شہر ہے اور ہم اس کو نقل و حرکت کا ایک قابل رسائی نظام فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہیں۔ جس میں سب کے لیے نقل و حرکت کے برابر مواقع پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ میگنس کارڈز® ان رہائشیوں اور سیاحوں کو رسائی میں آسانی فراہم کرنے کے لیے ایک جامع ایپ ہے جنہیں برامپٹن اور پیل کے نقل و حرکت کے نظام کے استعمال میں دشواری پیش آتی ہو۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"ہمارے رہائشیوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، لہذا ہمیں معاونت بھی جامع کرنی چاہیے۔ ہم اس پیش قدمی پر سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داری کرنے پر نہایت خوش ہیں، یہ قدم تمام لوگوں کے لیے نقل و حرکت کے آپشن بڑھائے گا اور شہریوں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔"

- پیل ریجنل چیئر نیٹو انیکا

"عوامی نقل و حرکت کے ذرائع پر میگنس کارڈز مسافروں کا تجربہ بہتر بنائے گا۔ ہم نے اس قابل رسائی اور جامع ترغیب پر ریجن آف پیل کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور ہم برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے مرحلہ بہ مرحلہ گائیڈیں اپنے شہر میں لانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔"

- ایلکس ملوچیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

میڈیا کنٹیکٹ

ریچل براؤن

کمیونیکیشنز سپیشلسٹ، ٹرانس ہیلپ

905.460.6784 | rachelle.brown@peelregion.ca